

English Translation Test-1

Time Allowed: 30 Minutes

Note: (For Online Students)

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Poor attempt.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Name: <u>Muhammad Asadul Bhatta</u> | Batch: <u>406 (A)</u> |
| LMS ID: <u>40100</u> | |

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression. (10)

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے کیا لیکن آگے چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہوئے۔ کامیابی، عزت اور شہرت آپ کو کبھی پلیٹ میں رکھ نہیں دی جاتی صرف دولت ہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے بھی ایک شرط لازم ہے کہ وہ آپ کے آباؤ اجداد کے پاس جائیداد ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو دولت ملے گی۔ دولت سے آپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ذلت کمانے میں یا متنازع بننے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

Throughout history, successful people have faced numerous problems but they never gave up. Today, the biggest wealth in one's own life is one's honor and good reputation. Nowadays, People only value you as long as wealth remains with you. Reputation, honor, and personality count for nothing. Success is a habit that should be practiced. wealth never belongs to anyone forever because it's a trust from Allah. and one must give it back. In today's world, if you want to purchase anything, you can buy anything, but buying honor and respect of people is something money cannot buy. Wealth goes wherever it finds benefit. If today there is wealth in your pocket, then use it wisely. (cont.)

Where in the passage has been discussed about wealth being a trust from Allah?

as tomorrow it may no longer be there.